

خداوند چاہتا ہے میں اُسے یاد رکھوں۔
(ہیکلمن ۷ : ۲۰)۔

تصویر میں رنگ بھریں، اسے کاٹیں، اور نچے حصے سے جلاٹ کاٹیں۔
پھر کاغذ کی رینج بنانے کے لیے کاغذ کے لمبے پتے کو گروے کاٹیں۔ ہر بار جب آپ ہفتے کے دوران ہنوع کو یاد کرنے کے لیے پتے کو بچھیں، تو ایک پتے پر لکھیں کہ آپ نے کیا کیا اور اسے رینج کے ساتھ جوڑیں۔

